

آئیے کام کی جگہ پر سڑک کے حادثات کو کم کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔

کام کے اوقات کے دوران ہونے والے کل حادثات میں سے سڑکوں پر ہونے والے حادثات کا حصہ


مزید جانیں

پیشہ ورانہ اور غیر پیشہ ورانہ نقل و حمل کے شعبوں میں سڑک کے حادثات کے خطرات کے بارے میں، اطالوی اور دیگر زبانوں میں

کیو آر کوڈ
اسکین کریں



اور پمفلٹ کو دوسری
زبانوں میں پڑھیں



ذخام: ISTAT 2024



کثیر لسانی مواد
کے مرتب کردہ متون
AUSL Romagna

ایک کارکن کے طور پر آپ کیا کر سکتے ہیں/آپ کو کیا کرنا چاہیے



اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو گاڑی نہ چلائیں (ڈرائیونگ اور آرام کے اوقات کا احترام کریں)۔



گاڑی چلانے سے پہلے اور/یا دوران منشیات/شراب استعمال نہ کریں۔



بمیشہ اپنی سیٹ بیلٹ باندھیں۔



گاڑی چلاتے وقت موبائل فون، ٹیبلیٹ یا پی ڈی اے استعمال نہ کریں۔



آپ اپنی موبائل فون کو وائس کمانڈز کے ذریعے کار کے بلوٹوتھ سے منسلک کر کے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈرائیونگ شروع کرنے سے پہلے اسے ہم آہنگ کرنا یاد رکھیں۔



سڑک اور آپریشنل علاقوں میں رفتار کی حدوں کا خیال رکھیں۔



بمیشہ یاد رکھیں کہ سامان کو اس طرح محفوظ کریں کہ سفر کے دوران وہ حرکت نہ کرے۔



ہر بار جب آپ گاڑی سے اترتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ روشن رنگ کے عکاس لباس پہنیں۔



بمیشہ اپنی توجہ صرف سڑک پر مرکوز رکھیں۔



اپنے آجر کو کسی بھی خرابی سے آگاہ کریں۔

آپ کا آجر کیا کر سکتا ہے/کیا کرنا چاہیے



بھرتی کے وقت، نئی گاڑیوں کے استعمال کی صورت میں اور وقتاً فوقتاً، آپ کو آپ کی سمجھ آئے والی زبان میں ڈرائیونگ کے رویے اور طریقہ کار کے بارے میں تربیت فراہم کی جاتی ہے۔



یہ آپ کو ڈرائیونگ کے دوران پیش آنے والی خرابیوں، فنی نقصانات اور کسی بھی مسئلے کی اطلاع دینے کے طریقے فراہم کرتا ہے۔



گاڑیوں کی اچھی حالت کی جانچ کے لیے طریقہ کار وضع کرتا ہے۔



آپ کو مناسب وسائل (مرمت، سروسنگ، آلات/سامان) فراہم کرتا ہے۔



کچھ صورتوں میں، یہ آپ کو معائنے کے لیے کمپنی کے ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے۔



آپ کو ذاتی حفاظتی سازوسامان فراہم کرتا ہے۔



ڈرائیونگ کے اوقات کو بہتر بنانے کے لیے شفٹوں اور راستوں کا انتظام کریں، اور ڈرائیونگ کے اوقات اور آرام کے وقفوں سے متعلق ضوابط کی تعمیل کو یقینی بنائیں۔



گاڑیوں کو ایسے مواصلاتی آلات سے لیس کریں جو موجودہ ضوابط کے مطابق ہوں، یعنی بینڈ فری آلات جو بغیر اسٹیئرنگ ویبل سے ہاتھ ہٹائے یا سڑک سے نظریں ہٹائے فعال کیے جا سکیں۔

سڑک کام کی جگہ نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی ایسی جگہ ہے جہاں لوگ کام کرتے ہیں۔



مزدوروں اور آجرین کی جانب سے 'سڑک کے خطرے' کے جائزے کی بنیاد پر چند آسان حفاظتی اقدامات نافذ کرنا سڑک کے حادثات کو روکنے اور سنگین نتائج سے بچنے میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔

سڑکوں پر حادثات کو کم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں:



1 ذاتی علم اور آگاہی

اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو پہچاننا تاکہ بہترین حالات میں گاڑی چلائی جا سکے (مثلاً مناسب آرام، شراب اور منشیات سے پرہیز، دوا لینے سے ڈرائیونگ کی صلاحیت پر پڑنے والے کسی بھی اثر پر توجہ دینا، وغیرہ)۔

2 قواعد کا علم



ہائی وے کوڈ میں بیان کردہ قواعد اور عام عقل کے مطابق طرز عمل کے اصولوں سے باخبر رہیں۔



3 اہم مسائل کا علم

روانہ ہونے سے پہلے ماحولیاتی اور سڑکوں کی صورتحال اور گاڑی کی موزونیت (سامان، دیکھ بھال، گاڑی کے ردعمل کا علم) چیک کریں، تاکہ آپ اپنے سفر کے وقت اور راستے کا منصوبہ بنا سکیں۔

4 گاڑی کا علم



فعال اور غیر فعال حفاظتی نظاموں سے واقف ہوں اور انہیں ان کی پوری صلاحیت کے مطابق استعمال کرنا جانیں؛ اس بات کی تصدیق کریں کہ ضروری دیکھ بھال کی گئی ہے۔